

## میڈیا کے لیے لکھنا - II

میڈیا کے لیے لکھتے وقت جن پروگراموں میں اسکرپٹ کی ضرورت ہے ان میں تحریر کا طریقہ کار، زبان، مدت وغیرہ کا تعین، پروگرام کی نوعیت (فارمیٹ) اور سامعین/ناظرین (ٹارگیٹ آڈینس) کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ ہر پروگرام کی زبان اس کے موضوع کے مطابق طے پاتی ہے۔ اسکرپٹ لکھتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ پروگرام کس عمر، علاقے اور کس سطح کے لوگوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔

تحریر کا آسان، رواں اور عام فہم ہونا ضروری ہے۔ برقی میڈیا کی زبان پرنٹ میڈیا سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جانا چاہیے جن کی ادائیگی بھی آسان ہو اور ترسیل اچھی طرح ہو جائے۔ میڈیا کو موضوعاتی اعتبار سے بنیادی طور پر دو حصوں صحافتی میڈیا اور تفریحی میڈیا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ صحافتی میڈیا کی تحریر حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور اسے واقعاتی تناظر میں بیان کیا جاتا ہے۔ اخبار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی خبریں اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ تفریحی میڈیا کی تحریر میں کسی حقیقی یا تخیلی واقعے یا حادثے کو افسانوی اور ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تفریحی میڈیا میں فچر فلم، سیریل، ریڈیو ڈراما، ٹیلی ڈراما، ڈاکیو ڈراما وغیرہ شامل ہیں۔

### 2.1 اسکرپٹ (ریڈیو، ٹیلی ویژن)

ریڈیو اسکرپٹ لکھتے وقت تمام توجہ آوازوں یعنی الفاظ، موسیقی، اینفکٹس وغیرہ پر رہتی ہے۔ اس کے لیے اسکرپٹ لکھنا ٹی وی اسکرپٹ کے مقابلے قدرے آسان ہوتا ہے۔ ٹی وی میں کئی فارمیٹ ایسے ہیں جن کے لیے اسکرپٹ لکھتے وقت یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ کردار کیمرے کے سامنے کیا ایکشن کریں گے۔ یعنی ٹی وی اسکرپٹ میں کردار کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور مکالمے ہی نہیں بلکہ ان کی حرکات و سکنات بھی تحریر کی جاتی ہیں۔

ریڈیو اور ٹی وی دونوں میں ڈاکیو ڈراما ایک ایسا فارمیٹ ہے جہاں کنٹری کے ساتھ اسکرپٹ میں حرکات، حرکات کی نوعیت اور مکالمے سب کچھ لکھنا ہوتا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی میں بھی اسکرپٹ موضوع اور فارمیٹ کے اعتبار سے بدل جاتا ہے اور ہر فارمیٹ کی الگ الگ تکنیک ہے جسے ذہن میں رکھ کر اسکرپٹ تیار کرنا ہوتا ہے۔

زبان و ادب کی کسی بھی صنف میں لکھنے میں مہارت بہم پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس صنف کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ اسی طرح اسکرپٹ لکھنے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اسکرپٹس کا مطالعہ سود مند ہوگا۔ یاد رکھیے کہ کسی ٹی وی۔ سیریل کے لیے لکھے جانے والی اسکرپٹ کے تقاضے کچھ اور ہیں اور فلم کی اسکرپٹ کے تقاضے کچھ اور۔ گودونوں میڈیم کے لیے جو اسکرپٹ تیار کی جائے گی ان میں بنیادی باتیں یکساں ہوں گی۔ تاہم تکنیکی اعتبار سے ان دونوں میں خاصا فرق بھی ہوگا۔





ذیل میں این سی آر ٹی کی تیار کردہ آٹھویں جماعت کی کتاب 'اپنی زبان' سے ماخوذ، ممتاز مفتی کے ڈرامہ 'مہمان' کے ایک حصے کو اسکرپٹ نگاری کے فارم میں نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

### اسکرپٹ نگاری کا نمونہ

| سین نمبر: 1 / Indoor / Day   | کردار : جمیل (شوہر)  | ثریا (بیوی) | بدھو (نوکر) |
|--|--|-------------|-------------|
| مکالمہ Dialogue  | مشہر نامہ Screenplay   |             |             |
| <p>ثریا: میں پوچھتی ہوں بار بار حساب جوڑنے سے مشکل حل ہو جائے گی کیا؟<br/>جمیل: (اپنے آپ سے) تین سو تین سو پچتر۔ یہ ہوئے چار سو.....<br/>ثریا: بار بار گننے سے ان رقموں کی میزان کم ہو جائے گی کیا؟<br/>جمیل: لیکن اتنی ساری رقم کیسے ادا کریں گے؟ اب کی بار 252 تو تنخواہ کے آئیں گے اور تین سو بقیہ ملے گا یعنی کل رقم 552 ہوگی۔<br/>ثریا: ٹھیک تو ہے۔ 532 قرض ادا کریں گے۔ باقی بچے ہیں، اللہ کے فضل سے ہو جائے گا گزارہ۔<br/>جمیل: تم تو مذاق کرتی ہو۔ بیس روپے میں مہینہ کیسے گزرے گا؟<br/>ثریا: اگر میں کہوں اللہ کے فضل سے ہو جائے گا تو کہتے ہیں مذاق کرتی ہو اور جب آپ خود کہا کرتے ہیں "تم نہیں سمجھتیں ثریا۔ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔"<br/>اس وقت؟<br/>جمیل: لاجول ولاقوۃ۔ پھر وہی مذاق۔ ذرا سنجیدگی سے سوچو نا!<br/>ثریا: میں کیا سوچوں! میری سناہی کون ہے؟<br/>جمیل: ہائیں یہ کون؟ بدھو، او بدھو!<br/>ثریا: ہوگا ہمارا ہی کوئی دوست۔ ادھر چائے کا وقت ہوا، ادھر کوئی آپہنچا۔ کیوں نہ آئے اللہ کے فضل سے کھاتا پیتا گھر ہے۔ اب ان کو کیا معلوم کہ اندر سے کیا حالت ہے؟<br/>بدھو: (آکر) جی بابو جی!<br/>جمیل: کھڑا کیا ہے۔ باہر جا کر دیکھو کون آیا ہے؟<br/>بدھو: بہت اچھا بابو جی!<br/>جمیل: نوکر بھی وہ لائے ہیں جن کر جس کا جواب نہیں۔<br/>بدھو: باہر تو کوئی نہیں ہے بابو جی۔ یہ پرچی سی پڑی تھی ڈیوڑھی میں۔</p> | <p>جمیل کے مکان کا ایک کمرہ ہے۔ جس میں ایک بلیگ بچھا ہوا ہے۔ جس پر گاؤں تک لگا ہے۔ جمیل نیکی سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے۔ وہ قمیض اور پاجامہ پہنے ہوئے ہے۔ اس کے سر پر لال ٹوپی ہے۔ دوسری طرف اس کی بیوی ثریا بیگنی رنگ کا شلوار سوٹ پہنی بیٹھی ہے۔<br/>جمیل اور ثریا گھر کے اخراجات کے متعلق پریشان ہیں۔ جمیل روپے پیسے کا حساب کرتا ہے تاکہ بقیہ رقم ادا کی جاسکے۔<br/>ثریا طنز کرتے ہوئے جمیل کا مذاق اڑاتی ہے۔<br/>جمیل ثریا کے طنز پر برہمی کا اظہار کرتا ہے۔<br/>ثریا ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے چہرے کے تاثرات بدلتی ہے۔<br/>دروازے پر دستک ہوتی ہے، دونوں فکر مند ہوتے ہیں کہ اس وقت گھر پر کون آگیا۔<br/>ثریا ناگواری سے مُم بناتی ہے۔<br/>جمیل اپنے نوکر بدھو کو آواز دیتا ہے اور اسے سخت سست کہتا ہے۔<br/>بدھو باہر دروازے پر جاتا ہے اسے وہاں کوئی نظر نہیں آتا ہے بدھو واپس کمرے میں آتا ہے۔</p> |             |             |



ثریا: دکھاتو، جاتو، اب جا کر کپڑے استری کر۔

بدھو: اچھا جی!

ثریا: ہے اللہ، یہ تو ایک اور میل ہے۔

جمیل: ایک اور میل!

ثریا: پانی کانٹل ہے۔ پندرہ روپے بارہ آنے کا۔

جمیل: اتنا بل!

بدھو پرچی ثریا کو دکھاتا ہے۔ ثریا پرچی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔

دونوں پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں۔



ہم یہاں اسکرپٹ نگاری کے صرف بنیادی نکات پر توجہ کریں گے۔

- بہت زیادہ لکھنے سے گریز

عام طور پر اسکرپٹ کا ایک صفحہ ایک منٹ سے بھی کم مدت میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف کام کی باتیں تحریر کی جاتی ہیں۔ یہ کتاب یا مضمون نہیں ہے، جس میں بہت زیادہ لکھنے کی گنجائش ہو۔

- کہانی کا بنیادی خیال

بنیادی خیال کو آپ جملے یا ایک فقرے میں بیان کیجیے۔ ایک ایسا جملہ جو کہانی کے پلاٹ کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کر دے۔





### - طریقہ کار Treatment

مکالمے اور کرداروں کی حرکات و سکنات لکھنے سے قبل کہانی کا ایک بنیادی خاکہ/لائٹ عمل تیار کر لیجیے کہ آپ کی کہانی میں کیا کیا ہوگا۔ اس طرح آپ ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ اس بات کی منصوبہ بندی یا پیش بندی کر لیجیے کہ واقعات کس طرح ظہور میں آئیں گے۔ یہ منصوبہ بندی آپ واحد غائب (Third Person) کی صورت میں لکھیں گے۔

### - کہانی کا بیان

ڈرامے، ٹی۔وی سیریل یا فلم میں پیش آنے والے تمام واقعات لکھیے جس میں تمام تفصیلات اور جزئیات ہوں۔ اس حصے میں مکمل پلاٹ، شخصیات، ان کے مابین تعلقات، کرداروں کی صفات اور کہانی کا بنیادی نقطہ نظر تحریر کیجیے۔

### - کردار اور مکالمے

ہر کردار کے مکالمے اور ان کی حرکات و سکنات تحریر کیجیے۔ ان کی پوزیشن لکھیے۔ یعنی کیمرے کے فریم میں وہ کس طرف ہوں گے۔ دائیں طرف یا بائیں طرف یا پھر مرکز میں۔

یاد رکھیے کہ اسکرپٹ کرداروں کی حرکات و سکنات اور ان کے مکالموں کی صحیح پیش کش سے عبارت ہے۔ آپ کے کردار حقیقی زبان بولتے نظر آئیں۔ اگر کسی کردار کے لیے کوئی خاص ضرورت نہ ہو تو سبھی کردار عام لب و لہجے میں گفتگو کرتے نظر آئیں۔ حرکات و سکنات کا بیان بھی مختصر ہو۔ یعنی یہ سمجھ میں آجائے کہ اسکرین پر کیا ہونا چاہیے۔ اس میں تفصیلات اور جزئیات ہدایت کار بھریں گے۔

### - نظر ثانی

اسکرپٹ تحریر کرنے کے بعد اس پر نظر ثانی ضرور کیجیے۔ یہ دیکھیے کہ کسی بات کو بیان کرنے کے لیے آپ نے زیادہ الفاظ تو استعمال نہیں کر لیے۔ اسی بات کو کچھ اور کم الفاظ میں زیادہ بہتر طور پر کہنا ممکن ہو تو انھیں استعمال کیجیے۔

اس بات کی وضاحت ایک بار پھر ضروری ہے کہ یہ اسکرپٹ کے بنیادی نکات ہیں جو کسی کہانی کو اسکرپٹ کی شکل میں لکھتے وقت پیش نظر رکھے جاتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی۔وی اسکرپٹ کے بنیادی نکات تو یہی ہیں البتہ ریڈیو میں آوازوں پر زیادہ زور دیا

### سرگرمی 6.13

اسکرپٹ پر مبنی ریڈیو/ٹی وی کے کسی پروگرام کا انتخاب کیجیے۔ اس پروگرام کی اسکرپٹ پر قلمی نقطہ نظر سے کلاس میں تبادلہ خیال کیجیے۔



### سرگرمی 6.14

ریڈیو/ٹی وی کی کسی خبر کو سامنے رکھیے اور ان دونوں کے بنیادی فرقی کا مختصر جائزہ کلاس میں پیش کیجیے۔



جاتا ہے۔ موسیقی اور دیگر ساؤنڈ ایفیکٹس کی تفصیلات بھی اسکرپٹ نگار تحریر کرتا ہے۔  
ہر صنف کے اعتبار سے اسکرپٹ کا طریقہ کار بھی الگ ہو جاتا ہے۔

### 2.1.1 میڈیا کے لیے خبریں تیار کرنا

پچھلی جماعت میں آپ خبر اور خبر تیار کرنے کے طریقوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو خبر کے تعلق سے 'چھ کاف' اور معکوس مثلث جیسے نکات یاد ہوں گے۔ اس جماعت میں آپ نے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے خبر کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہاں برقی میڈیا کے حوالے سے خبر کے متعلقات پر گفتگو کی جائے گی۔

انسان فطری طور پر کچھ بتانا اور کچھ جاننا چاہتا ہے یعنی تزیل اور تجسس، انسانی فطرت کا خاصہ ہیں۔ انسان کا یہ فطری عمل اسے ایک منفرد شناخت عطا کرتا ہے۔ خبر رسانی میں جاننے، بتانے، حاصل کرنے، اطلاع دینے وغیرہ کا یکساں دخل ہے۔ جس کی بنیاد پر خبر کی تشکیل کی جاتی ہے۔

### 2.1.2 'خبر' کیا ہے؟

مختلف نقطہ ہائے نظر سے خبر کی بہت سی تعریفیں متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر اس کی کوئی جامع تعریف متعین نہیں کی جاسکتی۔ پھر بھی تمام تعریفوں کا حاصل یہ ہے کہ:  
'خبر اس چیز کا حال ہے جو واقع ہوئی ہو۔'

ہر واقعہ کے پیش آتے ہی تجھے بنیادی سوال ذہن میں آتے ہیں۔ ان سوالوں کو چھ

کاف کہا جاتا ہے:

- ◆ کیا؟
  - ◆ کون؟
  - ◆ کب؟
  - ◆ کہاں؟
  - ◆ کیوں؟
  - ◆ کیسے؟
- یعنی واقعہ کیا تھا جو پیش آیا؟  
کس سے متعلق تھا یعنی وہ کون تھا جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔  
کب پیش آیا (وقت)۔  
کہاں پیش آیا۔ جگہ کیا تھی۔ کیا مقام تھا وغیرہ۔  
وجہ کیا تھی۔  
وہ حالات کیا تھے جن میں واقعہ پیش آیا۔

### 6.15 سرگرمی

اگر آپ کو ریڈیو/ٹی وی پردس منٹ کی خبریں پیش کرنے کا موقع دیا جائے تو ایک اچھی نیوز ریڈر کے طور پر آپ یہ ذمہ داری کس طرح انجام دیں گے؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں۔





واقعی سے پیدا شدہ ان سوالات کی جو خبر تشفی کرتی ہے وہ مکمل خبر کہلاتی ہے۔ مگر عام طور پر ”مطلق خبر“ صرف شروع کے چار سوالوں کیا، کون، کب اور کہاں کے مختصر جوابات فراہم کرتی ہے جب کہ آخری دو سوالوں کیوں اور کیسے کے تشفی بخش جوابات کی تفصیل دراصل وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے صحافتی اظہار کے مختلف طریقے وجود میں آئے جنہوں نے مطلق اطلاع کو مکمل خبر بنانے میں مدد کی ہے۔

ذرائع ابلاغ کے اہم ذرائع پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے ”خبر“ اگرچہ واقعے کی حیثیت سے یکساں ہوتی ہے مگر ذریعہ ابلاغ کی نوعیت کے اعتبار سے خبر کو مکمل خبر بنانے کے طریقے اور تقاضے مختلف ہیں۔

ریڈیو اور ٹی وی میں بھی خبریں عام طور پر مختلف ذرائع سے حاصل شدہ اطلاعات کے مواد پر لکھ کر ہی تیار کی جاتی ہیں لیکن ان کے پیش کرنے کا طریقہ، زبان، پہنچ اور اثر اخبار میں شائع ہونے والی خبر سے کافی الگ ہوتا ہے۔

**ریڈیو اور ٹی وی میں خبریں سنانے اور دکھانے کے دو مقبول طریقے ہیں:**


- مختلف ذرائع سے حاصل شدہ اطلاعات کو لکھ کر سنانا (نشر کرنا)۔
- جائے واقعہ سے براہ راست نشر کرنا۔ ایسی صورت میں اسکرپٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لیکن دونوں صورتوں میں میڈیم سے متعلق زبان اور اسلوب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

### 2.1.3 ریڈیو نیوز میٹین

ریڈیو نیوز میٹین کی تیاری میں مندرجہ ذیل نکات کا خاص طور پر دھیان رکھا جاتا ہے۔

#### • زبان

ریڈیو ہر سطح کے لوگ سنتے ہیں اس لیے اس کی زبان آسان اور عام فہم ہوتی ہے۔ خبر سے متعلق تمام اہم نکات کو آسان زبان میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ کم پڑھے لکھے لوگ بھی اسے سن کر سمجھ لیں۔ اخبار میں چھپی ہوئی خبروں میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو دو بارہ پڑھا جاسکتا ہے لیکن ریڈیو میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پیش کش کی ہر سطح پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خبر کی ترسیل میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔



خبریں گہسی ہی ہوں وہ خبریں ہوتی ہیں اور خبریں  
رہتی ہیں۔ جب ان خبروں کی بنیاد پر کچھ اور لکھا  
جاتا ہے، وہ اڈیو ریل نوٹ ہو کوئی مضمون ہو،  
کوئی افسانہ ہو، نظم ہو یا ڈراما، جب ادب اور  
صحافت کی بحث شروع ہوتی ہے۔  
ادب اور صحافت میں دور کی نسبت  
ہے، مگر یہ دونوں نسبتیں ایک ہی شخص میں بہ خوبی  
جمع ہو سکتی ہیں اور اس کی تحریروں میں نمایاں ہو  
سکتی ہیں۔

— رشید حسن خاں



## • بیٹن لکھنا

خبریں کاغذ پر لکھتے وقت اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کاغذ کے ایک طرف کھلے کھلے صاف صاف لفظوں میں خبر لکھی جائے تاکہ آسانی اور روانی کے ساتھ پڑھا جاسکے۔ صفحات کو الگ الگ رکھا جاتا ہے تاکہ انھیں اٹھا کر پڑھنا آسان ہو۔ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ایک صفحہ پڑھ کر دوسرا صفحہ اٹھاتے ہوئے کوئی آواز نہ ہو۔ ایک صفحے پر ایک خبر تحریر کی جاتی ہے۔ اگر خبر طویل ہو اور دو صفحوں پر آئے تو کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے صفحے کے اختتام پر ایک بات مکمل ہو جائے یا کم از کم جملہ پورا ہو جائے۔ دوسرے صفحے سے نیا جملہ شروع ہو۔

برقی میڈیا میں تحریر کی مدت (Duration) بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے بیٹن کی تیاری میں اس کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے کہ خبریں وقت کے اندر اندر پوری ہو جائیں۔

نیوز اینکر / ریڈر، خبر کو بار بار پڑھ کر اپنے شبہات دور کر لیتا ہے تاکہ براہ راست خبریں پڑھتے وقت روانی میں کمی نہ آئے۔ اب اگر چہ ٹائپ شدہ کاپی کی سہولت موجود ہے اور تحریر کے پڑھے جانے کا مسئلہ سنگین نہیں رہا لیکن ٹائپ کی غلطیوں کی گنجائش بہر حال موجود ہے۔ اس لیے بہت باریکی سے پروف ریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

ریڈیو میں بیٹن کی آخری کاپی میں (جس کاپی سے پڑھ کر نشر ہونا ہے) زیرو زبر، پیش وغیرہ کے علاوہ رموز اوقاف بھی لگانے ضروری ہیں تاکہ بیٹن سناتے وقت کسی غلطی کے امکانات کو مزید کم کیا جاسکے۔

پروفیشنل نیوز ریڈر اسکرپٹ میں ڈیلیش (-) اور لمبا ڈیلیش (—) وغیرہ جیسے نشانات لگا کر یاد رکھتے ہیں کہ کہاں کتنا وقفہ (Pause) دینا ہے۔ وقفے کی معیاد کے صحیح تعین کے لیے کوئی طے شدہ اصول نہیں ہے۔ اس کا انحصار نیوز ریڈر کی تربیت اور تجربے پر ہے۔ اعداد و شمار لکھنے میں خاص خیال رکھا جاتا ہے۔

## • بیٹن پڑھنا

ریڈیو میں بیٹن پڑھ کر سنانے والے کو نیوز ریڈر اور نیوز کاسٹر کہا جاتا ہے۔ نیوز ریڈر






کے لیے مندرجہ ذیل صلاحیتیں ضروری ہیں:

آواز ایک قدرتی نعمت ہے۔ اس میں مشق اور محنت سے مزید نکھار پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ریڈیو کے لیے کس کی آواز اور کس طرح کی آواز مناسب ہے اس کا فیصلہ ذوق سماعت پر منحصر ہے۔ اسی لیے جو آواز نشریات کے لیے موزوں ہو اس کی تلاش جاری رہتی ہے۔

نیوز ریڈر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر سناتا ہے مگر اس کے لیے صرف آواز پر ہی نہیں زبان اور متعلقات زبان پر بھی دسترس ضروری ہے۔ نیوز ریڈر کے لیے خود اعتمادی اور حاضر دماغی بھی ضروری ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لکھے ہوئے ٹیٹل کے درمیان اچانک کوئی خبر یا لائیو خبر آجاتی ہے تو اس وقت نیوز ریڈر کی خود اعتمادی اور حاضر دماغی ہی کام آتی ہے۔



### • رپورٹنگ

کسی حادثے کی جگہ، جلسہ گاہ، کسی میلے یا کھیل کے میدان وغیرہ سے آنکھوں دیکھا حال اور تفصیلات بیان کرنے کو رپورٹنگ کہتے ہیں۔ رپورٹنگ عام طور سے دو طرح کی ہوتی ہے:

• ایک رپورٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں رپورٹر جائے وقوع کا دورہ کرتا ہے۔ وہاں سے نوٹس لے کر اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے جسے بعد میں نشر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی رپورٹنگ اور نیوز ٹیٹل میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اگر مناسب ہو تو اس جگہ پر موجود کچھ لوگوں کے بیانات اور ارد گرد کی آوازیں ایمبئینس (Ambience) شامل کر لی جاتی ہیں اور ایڈیٹنگ کر کے رپورٹ تیار کر لی جاتی ہے۔

• دوسری رپورٹنگ جائے وقوع سے براہ راست نشر کی جاتی ہے۔ اس کے تقاضے مختلف ہیں۔ براہ راست ہونے کی وجہ سے اس میں تحریری حصہ شامل نہیں ہوتا اور ایڈیٹنگ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس میں جو ہے، جیسا ہے، جہاں ہے، اس کا اصول کام کرتا ہے۔ رپورٹنگ کی یہ قسم مشکل ہے اور جو کچھ بھری بھی۔ اس میں کسی غلطی کے سدھارنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ ایسی رپورٹنگ سے صحیح معنوں میں پتا لگتا ہے کہ رپورٹر میں کتنی صلاحیت ہے۔ مختلف جگہوں اور الگ الگ طرح کے واقعات کی رپورٹنگ کے لیے مختلف صلاحیتوں کے افراد اسی لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ موقع کے

### سرگرمی 6.16

ٹی وی کے کسی نیوز ٹیٹل کو دیکھیے اور اس ضمن میں بنیادی نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نیوز ٹیٹل کا جائزہ لیجیے اور کلاس میں ساتھیوں کے درمیان پیش کیجیے۔







مطابق کسی تحریری معاونت کے بغیر مناسب اور موثر رپورٹنگ کر سکیں۔  
موسم، کھیل، حالات حاضرہ اور حادثات سے متعلق خبروں کی رپورٹنگ کے  
لیے انہیں افراد کو ترجیح دی جاتی ہے جو متعلقہ شعبے میں مہارت رکھتے ہیں۔

#### 2.1.4 ٹی وی نیوز بیٹن

موجودہ زمانے میں ٹی وی چینلوں کی بھرمار ہے۔ کئی چینل تو صرف خبروں کے لیے  
ہی بنائے گئے ہیں۔ لوگ اخبار اور ریڈیو کے مقابلے خبریں بھی ٹی وی پر زیادہ  
دیکھنے لگے ہیں۔ اس لیے ٹی وی خبروں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔


ٹی وی نیوز بیٹن میں خبروں کے حصول کے بنیادی ذرائع گرچہ ریڈیو والے  
ہی ہیں اور یہاں بھی نیوز بیٹن میں ان بنیادی چیزوں اور صلاحیتوں کی ضرورت  
ہے جن کا ذکر ریڈیو بیٹن کے ضمن میں آیا۔ لیکن ٹی وی آڈیو ویژول  
(Audio-Visual) میڈیا ہے۔ اس وجہ سے اس میں ریڈیو سے کچھ زیادہ  
صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔ انسان فطری طور پر سننے سے زیادہ دیکھنے پر  
یقین رکھتا ہے اور ٹی وی سنا تا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے۔

#### 2.1.5 ٹی وی کے لیے خبروں کا انتخاب

خبروں کے انتخاب میں اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر اسے سنانے کے  
بجائے دکھانا پڑے تو اس میں تصویری صلاحیت کتنی ہے اور اسے دکھانا  
مناسب بھی ہوگا یا نہیں۔ کیا دکھانا ہے، کیا نہیں دکھانا ہے، اس میں  
چینل کی پالیسی کے علاوہ صحافت کی عالمی اخلاقیات راہ نمائی کرتی  
ہیں۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی خبر ریڈیو کے بیٹن میں اہم جگہ پائے  
اور ٹی وی بیٹن میں اس کی جگہ کہیں اور ہو۔

#### 2.1.6 ٹی وی نیوز ایڈیٹنگ

ٹی وی میں ایڈیٹنگ کے کم از کم دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک ریڈیو بیٹن  
کی طرح کاغذ پر ایڈیٹنگ اور خبروں کی ترتیب اور دوسرے ویڈیو  
ایڈیٹنگ۔ ویڈیو ایڈیٹنگ ٹی وی نشریات کا ایک بڑا شعبہ ہے۔ اس کی





نی زمانہ بہت سی تکنیکی قسمیں ہیں اور اس کے لیے ایک خاص طرح کی تربیت اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ٹی وی میں ایڈیٹر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کون سا ویژول (Visual) کتنی مدت تک اثر رکھتا ہے، کتنی مدت تک اسے ٹی وی پر دکھایا جانا ہے۔ یہ تمام فیصلے ایک خاص تجربے اور ذوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عام طور پر اب ویڈیو ایڈیٹر، ایڈیٹنگ کرنے میں خود مختار ہوتے ہیں۔

### 2.1.7 ٹی وی خبروں کی پیش کش

ٹی وی نیوز کی پیش کش ایک اہم شعبہ ہے۔ ٹی وی خبر کی پیش کش میں اس کے ظاہری تقاضوں یعنی دل کشی اور سلیقہ دونوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ریڈیو براڈ کاسٹر کے لیے جس طرح آواز کا مناسب ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ٹی وی نیوز اینکر کے لیے آواز اور صورت دونوں کا مناسب ہونا ضروری ہے۔ مانک کی اپنی ضروریات ہیں تو کیمرے کے اپنے تقاضے ہیں اور ان دونوں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے ٹیلی کاسٹر۔ ٹیلی کاسٹر کے لیے ریڈیو کی طرح زبان اور زبان کے متعلقات یعنی تلفظ، لہجہ اور ادائیگی سے واقفیت شرط ہے۔ یہاں لفظ کے اثرات بھی ہیں اور اثرات و حرکات کے اثرات بھی ہیں۔ یہاں لہجہ بھی شستہ چاہیے اور لباس بھی مہذب۔ یہاں لفظ اور لباس دونوں کے انتخاب میں مہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔

ریڈیو میں لہجے اور تلفظ کی اہمیت ہے۔ ٹی وی میں بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لفظوں کے صحیح املا کا علم بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر خبروں کے ویڈیو دکھائے جانے کے ساتھ ساتھ اسکرین پر خبریں لکھی ہوئی بھی آتی رہتی ہیں۔ اسکرین کے نچلے حصے پر مستقل جاری رہنے والی تحریری خبروں کو اسکرول کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اسکرین پر لکھی ہوئی خبریں درست املا کے ساتھ نشر کی جائیں۔

### 2.2 ٹیلی ویژن دستاویزی فلم Television Documentary

دستاویزی فلم (Documentary) کی تعریف، عناصر اور جزئیات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دستاویزی فلم اور ویژول میڈیم کی دوسری اصناف



(Formats) میں کیا فرق ہے۔ فن کی دیگر اصناف کی طرح یہاں بھی ایک صنف کے عناصر دوسری صنف میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی دو اور دو چار کی طرح یہاں بھی اصناف



کی حد بندی قطعی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے دستاویزی فلم کی کوئی حتمی تعریف نہیں کی جا سکی ہے۔ کچھ لوگ اسے غیر حقیقی فکشن (Non-fictional) فکشن (Fiction) اور کچھ لوگ اسے حقیقی فکشن (Factsfiction) کہتے ہیں۔ موضوع کا حقیقی شکل میں تخلیقی اظہار دستاویزی فلم کا لازمی اور بنیادی عنصر ہے۔ دستاویزی فلم

حقیقی اشیا کی براہ راست رپورٹنگ ہے اور نہ کہ تخیلی واردات کا نتیجہ ہے۔

دستاویزی فلم کی اسکرپٹ میں دستاویزی حقائق کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ گویا جو کچھ ہو چکا ہے اور جس کا ثبوت دستاویز میں موجود ہے اس کو سامنے رکھ کر دستاویزی فلم کی اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے۔ دستاویزی فلم کا کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے۔ کسی تاریخی مقام، ادارے، عہد یا شخصیت سے متعلق دستاویزی فلم بنائی جا سکتی ہے۔

امریکی فلم ڈائریکٹر Robert Fleherly نے 1922 میں 'Nanook of the North' نام سے پہلی باضابطہ دستاویزی فلم تیار کی۔ اس دستاویزی فلم میں برف کی وادی میں رہنے والے آدمی کی روزمرہ زندگی کے حقائق کو بے حد فنکارانہ، موثر اور دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ اس سے تحریک پا کر دیگر لوگوں نے بھی دستاویزی فلموں کی طرف رخ کیا اور بہت جلد اسے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل ہو گئی۔ اسکرپٹ نگاری کے تعلق سے اسکرپٹ کے جو بنیادی نکات آپ نے پڑھے، دستاویزی فلم کی اسکرپٹ لکھتے وقت بھی ان تمام امور کا خیال رکھا جاتا ہے۔

## 2.3 ڈاکو ڈراما (Docu Drama)

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں دو اصناف ڈاکو میٹری اور ڈراما کو یکجا کیا گیا ہے۔ یعنی

### 6.20 سرگرمی

ریڈیو یا ٹی وی کی کسی دستاویزی فلم کا انتخاب کیجیے اور اس کی تیاری کے ضمن میں جو بنیادی نکات درکار ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں اس کا جائزہ لیجیے اور اسکول اسمبلی میں پیش کیجیے۔





## سرگرمی 6.21

ڈاکو ڈراما کی بنیادی خصوصیات کی روشنی میں  
”بھارت ایک کھوج“ ٹی پروگرام اگر آپ نے بھی  
دیکھا ہے تو اس کا جائزہ لیجیے۔




کچھ دستاویزی حقیقتوں کو ڈرامائی شکل میں فلمایا جاتا ہے۔ اس سے ڈاکو ڈراما کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، ٹھوس حقائق کی خشک بیانی میں کمی آ جاتی ہے مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اس کی دستاویزی اہمیت کا وہ معیار باقی نہیں رہتا جو خالص دستاویزی فلم کا خاصہ ہے۔ کیوں کہ ڈرامے کے عناصر فکشن کے ساتھ آتے ہیں جس سے دلچسپی تو بڑھ جاتی ہے اور حقیقت جیتے جاگتے روپ میں پردے پر نمودار ہو جاتی ہے، مگر اس سے دستاویزی فلم کی بنیادی اہمیت مجروح ہوتی ہے۔ تاہم ڈاکو میٹری سے کہیں زیادہ ڈاکو ڈراما مقبول ہے اور اب یہ کوشش بھی کی جانے لگی ہے کہ اس میں دستاویزی عناصر مجروح نہ ہوں۔

ڈاکو ڈراما کا ایک اعلیٰ نمونہ ٹی وی پر دکھایا جانے والا پروگرام ’بھارت ایک کھوج‘ ہے۔ دراصل ڈراما لکھنے اور بنانے میں ڈاکو میٹری اور ڈراما دونوں میں مہارت ضروری ہے۔

## 2A نیو میڈیا New Media

’نیو میڈیا‘ صحافت کی ایک نئی اصطلاح ہے۔ عہد رفتہ میں ایجاد ہونے اور فروغ پانے والی مواصلاتی (کیونیکشن) ٹیکنالوجی کو عام طور پر ’نیو میڈیا‘ کا نام دیا جاتا ہے۔ چند برس پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ طریقے جن میں کمپیوٹر کا استعمال کیا جائے ’نیو میڈیا‘ ہیں۔ تاہم نئے دور کی مسلسل تغیر پذیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اس خیال کی تردید کر دی۔ اس کے علاوہ اسٹارٹ فون اور ٹیبلیٹ کی مقبولیت نے بھی اس خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ لہذا یہ باور کیا جانے لگا کہ اطلاع رسانی کے ایسے طریقے کار جن میں انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے وہ نیو میڈیا ہیں۔ ایک عرصے تک اس بیان کو ہی نیو میڈیا کے لیے درست مان لیا گیا۔ لیکن بلوٹوتھ اور موبائل کنکٹیوٹی (Mobile Connectivity) کی نئی ایپلی کیشنوں اور شیئرنگ ایپس (Sharing Apps) نے ایک مرتبہ پھر اس خیال کو مسترد کر دیا۔ لہذا اب کہا جاتا ہے کہ اطلاع رسانی کے وہ تمام نئے ذرائع جیسے کمپیوٹر (ڈیسک ٹاپ، لپ ٹاپ، پام ٹاپ)، موبائل فون اور دستی کمپیوٹنگ مشین یعنی ٹیبلیٹ وغیرہ جن کے ذریعے انٹرنیٹ یا کسی دیگر رابطہ تکنیک (Uplinking Technology) کا استعمال کیا جاسکے، نیو میڈیا ہیں۔


مختصر یہ کہ اب اطلاعات رسانی کے تمام برقیاتی اور اختراعی طریقوں کو نیو میڈیا کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ تحریری متن، گرافکس اور سمعی و بصری مواد کی آن لائن نشر و اشاعت کا تازہ ترین میڈیم ہے۔ اسی لیے اسے نیو میڈیا کہا جاتا ہے۔ اس





میں معلومات کا ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ اس میں کئی کتب خانے سمائے ہوئے ہیں جو مضامین کا تناظر و پس منظر بتاتے ہیں اور حقائق کی تصدیق و تردید کرتے ہیں۔ یہ میڈیا خبریں اور رائے نشر کرنے کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحافی کی معلومات کا اہم ماخذ بھی ہے اور معلومات کی جانچ کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ بھی۔

عہد حاضر میں نیومیڈیا کو تیزی سے مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ایک اہم



سبب یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا (اخبارات و رسائل) اور الیکٹرانک میڈیا (ریڈیو اور ٹیلی ویژن) میں قاری، سامعین اور ناظرین کو اپنی رائے دینے کے مواقع بہت کم حاصل تھے۔ ان کے مقابلے نیومیڈیا میں عوام (قاری، سامع اور ناظر) کو فوری طور پر اپنی رائے دینے کی آزادی حاصل ہے۔

نیومیڈیا کے تیزی سے مقبول ہونے کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ استعمال میں آسان (User Friendly) ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مقبولیت کے پیچھے کاروباری مقاصد بھی کارفرما ہیں۔ اشتہارات کی سستی اور آسان ترسیل اور بیک وقت متعدد ایس ایم





## سرگرمی 6.22


نیومیڈیا، سوشل نیٹ ورک، فیس بک، ٹویٹر، واٹس اپ، ڈیک ٹاپ، لیپ ٹاپ، ٹیلیٹ، ٹیلی پرنٹر وغیرہ برقی ذرائع ابلاغ کی اہمیت اور افادیت پر مختلف طلباء کی شمولیت کے ساتھ ایک مذاکرہ کیجیے۔



ایس (Bulk SMS) کی ابتدائی بھی اس کی مقبولیت میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ غلط فہمی عام ہے کہ اکثر لوگ 'سوشل نیٹ ورک' کو ہی نیومیڈیا سمجھ لیتے ہیں۔ دراصل یہ نیومیڈیا کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ایسا نیٹ ورک جو ہمارے سماجی رابطوں کے لیے استعمال کیا جائے 'سوشل نیٹ ورک' کہلاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں 'فیس بک'، 'ٹویٹر' اور 'واٹس اپ' اس کی شاندار اور مقبول مثالیں ہیں۔

نیومیڈیا کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آج پوری دنیا اس کی بہ دولت گلوبل/عالمی گاؤں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ گلوبل گاؤں سے مراد اطلاعات کی آسان اور بروقت ترسیل ہے۔ نیومیڈیا نے اجنبی افراد کے مابین رشتہ استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سے آن لائن تجارت کی بڑی ترقی ہوئی ہے۔ اس کی مدد سے ہم گھر بیٹھے ایشیا کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اس سے اشتہار کے شعبے کا فروغ ہوا ہے اور اشتہارات تک عام لوگوں کی رسائی آسان ہو گئی ہے۔ ای۔ بینکنگ کے ذریعے مالی لین دین اور صنعت و حرفت کے معاملات بھی طے کر سکتے ہیں۔ نیومیڈیا کا سب سے بڑا کارنامہ ذاتی صحافت (Citizen journalism) کا فروغ ہے۔ آج ہمارے لیے قومی اور بین الاقوامی مسائل پر اپنی رائے کا اظہار اسی کے سبب آسان ہو گیا ہے۔ نیومیڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے یا تبلیغ کا بھی بڑے پیمانے پر کام لیا جا رہا ہے۔ آج سیاسی جماعتیں اور تجارتی ادارے بھی نیومیڈیا کا بخوبی استعمال کر رہے ہیں۔ چونکہ نیومیڈیا ایک آزاد اور غیر منظم ذریعہ اظہار ہے لہذا ایسی صورت میں اس کے نامناسب استعمال کی گنجائش بھی رہتی ہے۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اس کا مناسب استعمال کرنا چاہیے۔

نیومیڈیا کے لیے کام کرنے والا صحافی چوبیس گھنٹے مصروف رہتا ہے۔ اس پر ہمہ وقت اپنے کام کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اسے اطلاعات کو مختلف شکلوں میں پیش کرنے کی مہارت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ مثلاً اسے تحریری، گرافکس، سمعی اور بصری مواد تیار کرنے کے علاوہ ایک اچھا فوٹو گرافر، ایک ماہر





### سرگرمی 6.23

اردو زبان و ادب کی تدریس و آموزش کو موثر و مفید بنانے کے لیے آپ سوشل نیٹ ورکنگ کی مختلف سائنس کا استعمال کس طرح کریں گے۔ ساتھیوں سے تبادلہ خیال کیجیے۔

کمپیوٹروں اور اچھا ویب ماسٹر ہونا لازمی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ نیومیڈیا کی طرز پر سوچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی اطلاع پیش کرنے کے لیے کس آلے، تکنیک اور طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے۔ کسی مخصوص واقعے کو ایک کہانی کی طرز پر پیش کرنا بہتر ہوگا یا گرافکس کی شکل میں؟ اس میں ویڈیو کلپ کہاں آنا چاہیے اور آڈیو کہاں مناسب رہے گی؟ کسی مخصوص رپورٹ میں ان سبھی تکنیکوں کا استعمال کیا جانا چاہیے یا محض چند ایک کا؟ غرض یہ کہ اس کے ذہن میں تحریری نقوش کے ساتھ ساتھ سمعی و بصری تصورات بھی واضح ہونے چاہئیں۔

نیومیڈیا سے وابستہ صحافی کو مسلسل اپنے علم و فن میں اضافہ کرنے اور نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کی تگ و دو میں لگے رہنا چاہیے۔ پیجری جیسے آلے اور انفراریڈ (Infrared) جیسی تکنیک کے تیز رفتار خاتمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیومیڈیا کی دنیا میں کسی آلے یا تکنیک کے مقبول و متروک ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گذشتہ صدی کے اختتام پر رابطے اور خبر رسانی کے لیے 'پیجری' (Pager) کو بھی ایک اہم آلہ (Device) سمجھا جاتا تھا۔ تاہم موبائل فون میں مختصر پیام رسانی (Short Messaging Service - SMS) کی ابتدا اور کم خرچ استعمال اور فراوانی کے سبب پیجری کی ضرورت و مقبولیت میں تیزی سے کمی آئی۔ اس طرح یہ آلہ محض چند روز ہی کارگر ثابت ہو سکا اور جلد ہی ناپید ہو گیا۔ اسی طرح انفراریڈ جیسی تکنیک کی عمر پیجری سے بھی مختصر رہی اور نئی نسل کے لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ دراصل انفراریڈ کے فوراً بعد بلوٹوتھ (Bluetooth) اور پھر نیٹ ورک فائل ٹرانسفر NFT کی ایجاد نے اس ٹیکنالوجی کو پینے نہیں دیا۔ لہذا صحافی کے لیے یہ لازمی ہو گیا کہ وہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی پر نظر رکھے اور نئی تکنیکوں سے واقفیت حاصل کرے۔

صحافی کو ٹیکنالوجی کی قوت کا اندازہ بھی ہونا چاہیے۔ محض تکنیک سیکھ لینے اور اس پر بغیر سوچے سمجھے عمل شروع کر دینے سے مؤثر صحافت کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً 1994 میں ورلڈ وائڈ ویب (World Wide Web) کے متعارف ہوتے ہی اخبارات و نشریاتی اسٹیشنوں نے اپنے مواد کو آن لائن کرنا شروع کر دیا۔ کیوں کہ ان دنوں خبروں کے متن کو ویب سائٹ پر ڈالنا ہی خبروں کو آن لائن کرنا تصور کیا جاتا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے ٹیلی ویژن کے ابتدائی دور میں خبریں پڑھنے والے اور نامہ نگار اس میڈیم کی قوت کا بھرپور استعمال نہیں جانتے تھے اور محض کیمرے کے سامنے خبریں پڑھنا ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ تاہم رفتہ رفتہ انٹرنیٹ کا استعمال بڑھنے لگا اور آن لائن صحافت مزید اثر انگیز اور طاقتور بھی ہوتی گئی۔

یہاں نیومیڈیا میں استعمال ہونے والے آلات اور تکنیکوں کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔



### سرگرمی 6.25

کسی سوشل نیٹ ورکنگ آلے (Tool) کا انتخاب کیجیے اور اپنے کسی پسندیدہ موضوع کی آموزش کے اہم جزو کے طور پر اسے استعمال کیجیے۔



## نیومیڈیا ایک نظر میں

| نمبر شمار | سافٹ ویئر/اپیلی کیشن                 | مقبول/عام طور پر استعمال ہونے والا آلہ | تکنیک           |
|-----------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 1         | فیس بک                               | کمپیوٹر / ٹیلیٹ / موبائل               | انٹرنیٹ         |
| 2         | ٹویٹر                                | ٹیلیٹ / موبائل                         | انٹرنیٹ         |
| 3         | ای میل                               | کمپیوٹر/ٹیلیٹ/موبائل                   | انٹرنیٹ         |
| 4         | بلاگ                                 | کمپیوٹر                                | انٹرنیٹ         |
| 5         | بلک (Bulk) ایس ایم ایس               | کمپیوٹر/اسمارٹ فون                     | انٹرنیٹ         |
| 6         | شیرنگ ایپس، بلوٹوتھ (Bluetooth)، NFT | موبائل، ٹیلیٹ                          | شیرنگ ایپلیکیشن |
| 7         | پیام رساں (Messenger)                | ٹیلیٹ / موبائل/کمپیوٹر                 | انٹرنیٹ         |
| 8         | ای بک، ای پیپر، ای میگزین            | کمپیوٹر، موبائل                        | انٹرنیٹ         |
| 9         | جی پی ایس                            | موبائل / ٹیلیٹ                         | انٹرنیٹ         |
| 10        | کلنڈر                                | کمپیوٹر / ٹیلیٹ / موبائل               | انٹرنیٹ         |
| 11        | کلنگ کمپیوٹر                         | ٹیلیٹ / موبائل                         | انٹرنیٹ         |
| 12        | کرسٹل ایپس                           | موبائل/ٹیلیٹ/کمپیوٹر                   | انٹرنیٹ         |
| 13        | خبررسانی                             | کمپیوٹر / ٹیلیٹ / موبائل / ٹیلی پرنٹر  | لین / انٹرنیٹ   |





## غور کرنے کی بات

- تحریر کے مخصوص تقاضے ہیں۔ اخبار کے لیے پڑھنے، ریڈیو کے لیے سمعی اصولوں اور ٹی وی کے لیے سمعی و بصری دونوں ضرورتوں پر یکساں توجہ دینی ہوتی ہے، نیز یہ بھی کہ تحریر کیوں اور کس کے لیے ہے۔ متعین وقت میں اس کی تکمیل ہو، زبان سادہ، عام فہم اور موثر و جامع ہو۔
- ذرائع ابلاغ کی ترقی کے مراحل مسلسل جاری ہیں۔ یہ ترقی جدید طریقوں اور تکنیک کی ایجاد پر منحصر ہے۔
- ریڈیو ٹاک، انٹرویو، مذاکرہ، معلومات عامہ، شاعری، کلاسیکی موسیقی، فلمی موسیقی، رواں تبصرہ، ڈاکیومنٹری، فنیچر، ریڈیو برج، ریڈیو ڈراما، خبریں وغیرہ ریڈیو سے نشر ہونے والے اہم پروگرام ہیں۔
- ریڈیو فنیچر حقیقت پر مبنی ڈرامائی تخلیق ہے۔ ڈاکیومنٹری، ریڈیائی ڈرامے کی تکنیک بھی ہے اور ایک علاحدہ صنف بھی۔ جھلکی میں عام طور پر زندگی کے کسی پرکشش واقعے کو چند منٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔
- ریڈیو کی دنیا ساز اور آواز کی دنیا ہے۔ لیکن ٹیلی ویژن کا تعلق ان دونوں کے علاوہ سمعی و بصری حواس سے بھی ہے۔
- ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی ابتدا 15 ستمبر 1959 کو دوردش نام سے ہوئی۔
- NASA نے 1975 میں آریہ بھٹ سیٹلائٹ، 1978 میں بھاسکر سیٹلائٹ اور 1983 میں امریکہ کے سیٹلائٹ کو INSAT IB کے ذریعے خلا مدار میں بھیجا، اس کے سبب دوردش کے سبھی مراکز ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے، اس طرح پورے ملک میں اب کسی بھی پروگرام کو بیک وقت دیکھا جاسکتا ہے۔
- رپورٹنگ صحافت کی اہم کڑی ہے۔ جب کہ کسی بھی میڈیم کا سب سے مقبول شعبہ اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے بغیر خبر نویسی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ رپورٹر میڈیا کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔ انھیں پریس کے دل کی دھڑکن کہا جاتا ہے۔
- ہندوستان میں سنیما کا سفر 1896 سے شروع ہوا۔ 1913 میں دادا صاحب پھالکے نے ہریش چندر نام کی پہلی فلم بنائی۔
- ایک اچھے فلم بصر کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلم سازی کے تمام پہلوؤں سے واقف ہو اور فلم کے فن کی باریکیوں سے دوسروں کو روشناس کرائے۔
- ملاقات یا انٹرویو خبر کا اہم ذریعہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، انٹرویو کے ذریعے بہت سی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔
- آج کے دور کو اگر اشتہار کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اشتہارات سے واسطہ پڑتا ہے۔ آج کا انسان پیدائش سے موت تک اشتہار کی دنیا میں رہتا ہے۔ فرد صارف بن گیا ہے۔
- ٹی وی اشتہار ریڈیو سے زیادہ موثر اشتہار ہے۔ اس کے ذریعے کوئی بھی مصنوعات (پروڈکٹ) بہترین ایشیا میں شمار ہونے لگتی ہے۔ راتوں رات اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے ٹی وی اشتہار سب سے موثر اور سب سے مہنگا ذریعہ ہے۔
- ریڈیو اور ٹی وی میں اسکرپٹ موضوع اور فارمیٹ کے لحاظ سے بدل جاتی ہے؟ فارمیٹ کی تکنیک بھی الگ ہوتی ہے۔





- ریڈیو اور ٹی وی میں اسکرپٹ موضوع اور فارمیٹ کے لحاظ سے بدل جاتی ہے؟ فارمیٹ کی تکنیک بھی الگ ہوتی ہے۔
- خبر اس چیز کا نام ہے جو واقع ہوتی ہے۔ ہر واقعہ پیش آتے ہی چھ بنیادی سوال ذہن میں آتے ہیں۔ کیا، کون، کب، کہاں، کیوں اور کیسے۔ ان سوال کو جیسے کاف کہا جاتا ہے۔
- خبروں کے پلیٹن میں رپورٹنگ اور ایڈیٹنگ کی خاص اہمیت ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کی مہارت درکار ہوتی ہے۔
- ٹی وی پر نیوز کی پیش کش اب تقریباً سب سے اہم شعبہ بن گیا ہے۔ اس لیے پیش کش کے طریقے اور خود پیش کرنے والے کی شکل و صورت، لباس، حرکات و سکنات اور شخصیت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔
- دستاویزی فلم کے اسکرپٹ میں دستاویزی حقائق کو پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور اس کے ہو چکنے کا جو ثبوت (دستاویز) موجود ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر دستاویزی فلم کی اسکرپٹ لکھی جاتی ہے۔
- بنیادی خیال، خلاصہ، طریقہ کار، شوٹنگ، اسکرپٹ، صوتی و تصویری تسلسل دستاویزی فلم کی اسکرپٹ تیار کرنے کے بنیادی نکات ہیں۔
- اطلاع رسانی کے وہ تمام نئے ذرائع جسے کمپیوٹر، ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، پام ٹاپ، موبائل فون، ٹیلی پرنٹر، دستی کمپیوٹر (Tablet) وغیرہ کے ذریعے انٹرنیٹ یا کسی دوسرے رابطہ تکنیک کا استعمال کیا جاسکے نیومیڈیا ہیں۔ عوام میں ضروری طور پر اپنی رائے دینے کی آزادی کے سبب نیومیڈیا تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔
- وہ نیٹ ورک جو ہمارے سماجی رابطوں کے لیے استعمال کیا جائے سوشل نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ سوشل نیٹ ورک نیومیڈیا کا ایک جزو ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، واٹس اپ وغیرہ اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔
- نیومیڈیا اب دراصل گرافکس اور سمعی و بصری مواد کی آن لائن نشر و اشاعت کا تازہ ترین ذریعہ ہے۔





## EXERCISE

- 1- ذرائع ابلاغ کے آغاز و ارتقا پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔
- 2- ریڈیو نشریات کے مختلف پروگراموں بالخصوص اردو پروگرام سے متعلق اظہار خیال کیجیے۔
- 3- مختلف ریڈیائی اصناف اور ان کی نمایاں خصوصیات واضح کیجیے۔
- 4- ٹیلی ویژن میں اسکرپٹ نگاری، رپورٹنگ اور ایڈیٹنگ کا اہم رول ہے۔ تفصیل سے بیان کیجیے۔
- 5- فلمی تبصرے کی اہمیت اور اس کے لکھنے کے لیے بنیادی نکات واضح کیجیے۔
- 6- میڈیا میں انٹرویو کی اہمیت اور طریقہ کار پر روشنی ڈالیے۔
- 7- اشتہار کی ضرورت و اہمیت اور ریڈیو اور ٹی وی اشتہار کے فرق پر اظہار خیال کیجیے۔
- 8- ریڈیو اور ٹی وی میں اینکرنگ کی اہمیت اور ایک اچھے اینکر کی نمایاں صفات پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔
- 9- ریڈیو اور ٹی وی کی اسکرپٹ لکھتے وقت کن اہم نکات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔
- 10- خبر کی تعریف، چھ کاف کے اصول اور برقی میڈیا میں پیش کیے جانے کے الگ الگ طریقوں پر مختصراً اظہار خیال کیجیے۔
- 11- ریڈیو نیوز پلیٹن کی تیاری میں کن بنیادی نکات کو ذہن میں رکھا جاتا ہے؟
- 12- رپورٹنگ کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ ان کی کیا خصوصیات ہیں اور خبروں میں ایڈیٹر کا کیا رول ہوتا ہے؟
- 13- ٹی وی نیوز پلیٹن کی اہمیت، افادیت اور طریقہ کار پر روشنی ڈالیے۔
- 14- دستاویزی فلم کی مختصر تعریف، تاریخ اور اس کی اسکرپٹ کے بنیادی نکات واضح لکھیے۔
- 15- ٹی وی پروڈکشن میں بیانیہ و مکالمہ کی اہم خصوصیات اُجاگر کیجیے۔
- 16- نیومیڈیا کی تعریف، اہمیت اور نیومیڈیا میں استعمال ہونے والے مختلف آلات اور تکنیکوں اور ان سے وابستہ صحافی کے رول پر روشنی ڈالیے۔

